

مسافرانِ آخرت

ادارہ

حضرت مولانا حسن عباسیؒ کی رحلت..... حضرت مولانا حسن عباسیؒ طویل عرصہ علیل رہنے کے بعد ۲۶ محرم ۱۴۳۳ھ ۱۱ دسمبر ۲۰۱۲ء منگل کی صبح کو اس دارفانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

حضرت مولانا محمد حسن عباسیؒ ۱۹۲۵ء میں متحدہ ہندوستان میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم غازی خان کلہوڑو نوشہرہ فیروز کے مدارس میں حاصل کی، تکمیل مولانا محمد کمالؒ دیگ کے پاس کی، سلوک کی تربیت کے لئے حضرت لاہوریؒ و حضرت ہالچوٹیؒ سے کیے بعد دیگرے بیعت ہوئے اور دونوں حضرات سے خلافت حاصل کی۔ ابتداء ہی سے جمعیت علمائے اسلام سے وابستہ تھے اور تاحیات صوبہ سندھ کے سرپرست اعلیٰ رہے۔

حضرت مولانا عبدالستار تونسویؒ کی وفات..... ۲۲ دسمبر ۲۰۱۲ء کی شب حضرت مولانا عبدالستار تونسویؒ انتقال کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

آپ ۱۹۲۶ء میں تونسہ شریف میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم تونسہ شریف اور دیگر علاقوں میں حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے جہاں حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ، مولانا اعجاز علیؒ، مولانا ادریس کاندھلویؒ وغیرہ حضرات سے ۱۹۴۷ء میں دورہ حدیث پڑھا۔ فراغت کے بعد حضرت مولانا عبدالشکور لکھنویؒ کی خدمت میں رہ کر علم مناظرہ و تحقیق میں کامل دسترس حاصل کی۔ آپ نے ملتان میں ”دارالمبلغین“ کے نام سے ایک تحقیقی مرکز قائم کیا، جس سے بلا مبالغہ ہزاروں علماء نے استفادہ کیا۔ آپ تنظیم اہل سنت والجماعت پاکستان کے سرپرست اعلیٰ بھی تھے۔

حضرت مولانا رفیق الخلیل صاحبؒ کی شہادت..... مؤرخہ ۱۶ / صفر المظفر ۱۴۳۳ھ بمطابق ۳۰ دسمبر ۲۰۱۲ء بروز اتوار دوپہر تقریباً ۲ بجے عالمگیر مسجد بہادر آباد کے امام و خطیب مولانا رفیق الخلیل صاحب کو اس وقت دہشت گردی کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا جب وہ لمبر کے علاقے میں اپنے قائم کردہ ادارہ، ادارۃ الفرقان سے مسجد عالمگیر بہادر آباد کی طرف آرہے تھے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون